



COVID - 19



SYMPTOMS AND PREVENTION

علامات اور روک تھام

SYMPTOMS / علامات



بخار
FEVER



کھانسی
COUGH



زکام
COLD

PREVENTIVE MEASURES / احتیاطی اقدامات



Cough or sneeze
in a tissue

کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو کا
استعمال کریں

✓finemark



Wash your hands
with soap and water
for 20 seconds

20 سیکنڈ تک صابن
اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں



Avoid close contact
with people

لوگوں سے
فاصلہ رکھیں



Stay at home
when you are
unwell

بیماری کی صورت میں گھر
پر ہی رہیں۔



COVID - 19 کرونا وائرس

